

Q.7. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.

(10)

بزرگ نے بتایا کہ جنگل کے پار ایک پہاڑ ہے جہاں وہ پھول لگتا ہے جس کی خوشبو سے سے آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی لوٹ آتی ہے، مگر پہاڑ بہت بلند ہے اور اس پر بے شمار چٹانیں ہیں، کانتھے دار جھاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے پتھر ہیں جو راستہ روک لیتے ہیں۔ اس پہاڑ پر جانے کے لیے کئی لوگ آئے اور چلے گئے مگر ایسا کوئی شخص نہیں آیا جو پھول تک پہنچا ہو۔ شاید اسی لیے دنیا میں دکھ اور تکلیف ہے اور انسان روشنی کی تلاش میں ہے۔

The Old man told that there was a mountain across the forest where ~~he used to~~ ^{that flower blooms} ~~plant flower~~ whose smell ~~could~~ bring back ~~lost~~ sight of eyes. But, the mountain is ~~as high as stars~~ ^{very high and has numerous cliffs} with thorny bushes and huge rocks ~~that has~~ ^{which} ~~potential to~~ block the path.

Many people tried their best ~~to~~ reach the flower to get there but couldn't.

There was not a single man who could have reached the flower. ^{perhaps} ~~Maybe~~, that is the reason behind darkness of world and man is still looking for ~~light~~.

dear student try to translate word to word
dont use words and add unecessary words on your own
5/10